

Minister of State for External Affairs Smt. Meenakshi Lekhi's visit to Uzbekistan (September 23-26, 2021)

September 26, 2021

وزیر مملکت برائے امور خارجہ میناکشی لیکھی کا دورہ ازبکستان (23-26 ستمبر، 2021)

26 ستمبر، 2021

وزیر مملکت برائے امور خارجہ و ثقافت، محترمہ میناکشی لیکھی نے 23 سے 26 ستمبر 2021 تک ازبکستان کا دورہ کیا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد کسی بھی وسطی ایشیائی ملک کے لئے یہ ان کا پہلا سرکاری دورہ تھا۔

2. وزیر مملکت نے ازبک وزیر خارجہ جناب عبد العزیز کامیلوف سے ملاقات کی، جس کے دوران انہوں نے دو طرفہ، علاقائی اور کثیر الجہتی تعاون کے اہم شعبوں پر بات چیت کی۔ وزیر مملکت نے ازبکستان میں 1 ارب امریکی ڈالر کی لائن آف کریڈٹ کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد پر زور دیا۔ دونوں فریقین نے مجوزہ دوطرفہ سرمایہ کاری معاہدے کے لیے جلد از جلد جاری مذاکرات کو ختم کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ بات چیت میں افغانستان کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر قریبی اور باقاعدہ مشاورت کو برقرار رکھنے کی اہمیت اور اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ وزیر مملکت نے ایس سی او کی موجودہ ازبک صدارت کے لئے ہندوستان کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔

3. اس دورے کے دوران، وزیر مملکت نے ازبکستان کے وزیر ثقافت عالی جناب اوزودبیک نذر بیکوف سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے ہندوستان اور ازبکستان کے درمیان گہرے ثقافتی اور تہذیبی روابط کے پیش نظر ثقافت کے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید تیز کرنے پر نتیجہ خیز گفتگو کی۔ ان میں آرکائیوز، فلموں، بدھ مقامات کی حفاظت، ازبکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں 'انڈیا سٹڈی رومز' کے قیام، ادبی کاموں کا ترجمہ وغیرہ کے شعبے میں تعاون شامل ہے۔ اس دورے کے دوران 2021-25 کی مدت کے لئے کلچرل ایکسچینج پروگرام پر دستخط کیے گئے۔ بھارت کی فلمی شخصیات پر مشتمل 50 رکنی مضبوط ہندوستانی وفد آئندہ ہفتے تاشقند فلم فیسٹیول میں شرکت کرے گا۔

4. اپنے دورے کے دوران، وزیر مملکت کے پاس خطاب کرنے کے مختلف مواقع تھے۔ ان میں تاشقند اسٹیٹ یونیورسٹی آف لا میں 'ہندوستان کی جمہوری روایات' پر ایک لیکچر اور 'آزادی کا امرت مہوتسو' کے ایک حصے کے طور پر بخارا اسٹیٹ یونیورسٹی میں 'بھارت- ازبکستان تعلقات-

اسٹریٹجک شراکت داری کو تقویت کی فراہمی' پر ایک خطاب شامل تھا۔ انہوں نے تاشقند اسٹیٹ انسٹی ٹیوٹ آف اورینٹل سٹڈیز اور دیگر اداروں کے ماہر انڈولوجسٹس سے ملاقات کی، اور ازبکستان میں انڈیا اسٹڈیز اور فلسفے کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔

5. وزیر مملکت نے تاشقند میں ہندوستانی کمیونٹی کے ارکان اور سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں ہندوستانی طلباء کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ انہوں نے ازبکستان سمیت دیگر ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں بیرون ملک مقیم ہندوستانیوں کی مثبت شراکت کو اجاگر کیا۔ ہندوستانی برادری کو آزادی کا امرت مہوتسو کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی گئی۔

6. اس دورے نے ازبکستان کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری کو باقاعدہ سیاسی تبادلے برقرار رکھنے اور ہمارے ثقافتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مزید رفتار فراہم کی۔

نئی دہلی

26 ستمبر، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release